

Translation into English

African ~~thinker~~ thinker told that when
~~Britishers~~ Britishers came in Africa, ~~then~~
they had advancement and ~~Africa~~
~~we~~ we had earth, ~~land~~ They told that
~~we~~ we had earth, ~~land~~ They told that
give you advancement. we
closed our eyes. When we opened
our eyes, we had technology and
they had our land. However, when
social media websites came, ~~then~~
they had social media websites.
They told that this is free.
we closed our eyes and when
~~we~~ we opened our eyes, we
had facebook and whatsapp and
they had our personal information
and freedom. Hence, anything
which is free, ~~then~~ we have
to pay our freedom for it!

Translation should be idiomatic
Avoid language mistakes

Q.7. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression. (10)

افریقہ کے مفکر نے ایک بار کہا تھا جب انگریز افریقہ آئے تو ان کے پاس جدت تھی اور ہمارے پاس زمین۔ وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں آپ کو ترقی دینے آئے ہیں۔ ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھ کھلی تو ہمارے پاس جدت تھی اور ان کے پاس ہماری زمین۔ اسی طرح جب سوشل نیٹ ورک سائنس آئی، تو ان کے پاس فیس بک اور واٹس ایپ تھے۔ انہوں نے کہا یہ مفت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھ کھلی تو ہمارے پاس فیس بک اور واٹس ایپ تھے اور ان کے پاس ہماری آزادی اور ذاتی معلومات۔ پس جب بھی کوئی چیز مفت ہوتی ہے تو ہمیں اپنی آزادی دے کر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے...!

Best of Luck for CSS2025